

برائے فوری اجراء

**ون ملین ٹریز پروگرام: 2020 کے دوران پورے برامپٹن میں 50,000 نئے درخت لگائے جائیں گے**

برامپٹن، آن (19 فروری 2020) – آج برامپٹن سٹی کونسل نے ون ملین ٹریز پروگرام کے حصے کے طور پر ہر سال شہر میں 50,000 نئے درخت لگانے کی منظوری دے دی۔ یہ موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سے نمٹنے کی جانب ایک اور بڑا قدم ہے۔

2019 میں کونسل نے رائے دہی کے ذریعے متفقہ طور پر موسمیاتی ہنگامی حالت کا اعلان کیا تھا، جبکہ ساتھ ہی 2050 تک سٹی میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 80 فیصد تک کم کرنے کا ہدف بھی مختص کیا تھا۔

پچھلے پانچ سالوں کے دوران سٹی اور اس کے شراکت داروں – بشمول جنگلات کے تحفظ کے حکام، ریجن آف پیل، اسکول بورڈز اور ترقیاتی صنعت – نے برامپٹن میں ہر سال اوسطاً 43,000 درخت لگائے۔ سالانہ طور پر لگائے جانے والے درختوں میں کم از کم 7,000 کے اضافے کے ساتھ سٹی، برامپٹن 2040 ویژن کو پورا کرنے اور 2040 تک ایک ملین درختوں کے ہدف تک پہنچنے کے ایک قدم قریب ہو گیا ہے۔

درخت موسمیاتی تبدیلیوں میں کمی لانے اور اس سے مطابقت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی شہری علاقوں کے جنگلات میں بھی اضافہ کرتے ہیں، جگہوں کو مزید خوبصورت بناتے ہیں اور عوامی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ون ملین ٹریز پروگرام زیادہ درخت لگائے گا، خصوصاً سڑکوں کے کنارے، عوامی پارکس میں اور موجودہ رہائشی علاقوں اور کاروباری/ صنعتی علاقوں میں موجود سٹی کی دیگر جگہوں پر، تاکہ درختوں کے سائے میں اضافہ کیا جا سکے اور ماحولیاتی خدمات کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے۔

سٹی استحکامیت کے لیے وقف ہے اور یہ کوششیں ایک ماحول دوست شہر بنانے میں کردار ادا کرتی ہیں، جو کونسل کے اس دور کی ترجیحات میں شامل ہیں۔

**فوری حقائق:**

- برامپٹن میں موجودہ طور پر 3.6 ملین درخت موجود ہیں، جو کل رقبے کا 18 فیصد بنتا ہے
- ون ملین ٹریز پروگرام اس زمین پر نئے درخت لگانے پر مرکوز ہے۔ 2040 تک ایک ملین درخت لگانے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے سالانہ طور پر 7,000 درخت لگانے کی ضرورت ہو گی۔
- شہر میں شجرکاری کی اس مہم کے سامان کو منتظم کرنے، عمل درآمد، دیکھ بھال اور نگرانی کرنے کے حوالے سے ہدایات سٹی کے *اربن فارسٹ مینجمنٹ پلان* میں وضع کی جائیں گی، جو موجودہ طور پر زیر تشکیل ہے۔

**اقتباسات**

"یہ برامپٹن کو ایک ماحول دوست شہر بنانے کی جانب ایک اور پرجوش قدم ہے اور سٹی موسمیاتی تبدیلیوں کے مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ گلوبل کووینینٹ آف میٹرز فار کلائیمٹ اینڈ انرجی کے رکن کے طور پر، میں اس سال اس نڈر اور مشکل حکمت عملی کے نفاذ کو دیکھنے کے لیے پُر امید ہوں اور آنے والے سالوں میں مزید ماحول دوست اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے۔"

ہیں۔"

- بیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن میں 2050 تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 80 فیصد تک کم کرنے کا ہمارا ہدف مشکل ہے، مگر ہم اپنی کمیونٹی کے شراکت داروں کے ساتھ مل کر اور ون ملین ٹریڈ پروگرام جیسے اقدامات کے ذریعے یہ ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔"

- پال ویسیٹیٹے، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5 اور چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن میں کچھ زبردست سرسبز و شاداب جگہیں ہیں اور ون ملین ٹریڈ پروگرام ایک پرجوش قدم ہے، جو شراکت داریوں کے ذریعے ہمارے وقف شدہ عملے کو برامپٹن کو ایک ماحول دوست شہر بنانے اور اپنے رہائشیوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے درختوں کو زیادہ پھیلانے کی کونسل کی ترجیح کو آگے بڑھانے میں مدد دے گا۔"

- ٹیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

[Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca) | 905-874-3426